

(i) Show and tell

(v) Het up

(ii) Helter-skelter

(vi) The whole ball of wax

(iii) To the death

(vii) It's about time

(iv) Tilt at windmills

(viii) Punch-up

(5)

7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

(10)  
لاہور شہر سیاست ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت علی ہجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

Page 2 of 2

## Translation

The Lahore is not <sup>only</sup> the city of politics but also an ancient center of culture. The Mughal culture <sup>in</sup> this city was on climax. The city was also the center of Sikh culture. The culture of knowledge and learning was inherited <sup>by</sup> this city as well. Moreover, it was also a center of mysticism. The author of "Kashaf-ul-Mahjoob Hazrat Ali Hajeeri" popularly known as Hazrat Dada Gnanj Bakhsh is also buried in this city. The fashion of Lahore remained in vogue in the entire sub-continent during

Date: \_\_\_\_\_

Day: \_\_\_\_\_

the British rule. The importance of the city did not decrease even after the creation of Pakistan.